



سوال

(143) رمضان و عیدین قمری مہینے کے حساب سے یا شمسی کے حساب سے؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

میرا سوال یہ ہے کہ میں ہیمپٹن کینیڈا میں رہتا ہوں اور یہاں جو پانچ مساجد ہیں وہ سب رمضان و عیدین قمری حساب سے کرتے ہیں۔ آیا ایسا کرنا بدعت تو نہیں ہے۔؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

لگتا ہے دینی معاملات کے حوالے سے آپ کا مطالعہ انتہائی کمزور ہے، کیونکہ تمام مسلمان اس امر سے بخوبی آگاہ ہیں کہ رمضان اور عیدین قمری مہینے کے حساب سے ہی کئے جاتے ہیں اور شریعت نے ان کو کرنے کی تاریخیں بھی قمری مہینے (مثلاً روزے پہلے رمضان سے آخر تک، عید الفطر یکم شوال کو اور عید الاضحیٰ دس ذی الحجہ کو کی جاتی ہے) کے اعتبار سے بتلائی ہیں۔ اب آپ انہیں شمسی مہینوں کے اعتبار سے کیسے کر سکتے ہیں؟ یا انہیں بدعت کیسے کہہ سکتے ہیں۔؟ یہ تو عین سنت اور عین شریعت کے مطابق ہیں۔

ھذا ما عندي واللہ اعلم بالصواب

فتویٰ کمیٹی

محدث فتویٰ